

Exchange of list of prisoners between India and Pakistan

July 01, 2022

بھارت اور پاکستان کے مابین قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ

01 جولائی، 2022

ہندوستان اور پاکستان نے سفارتی چینلز کے ذریعے بیک وقت نئی دہلی اور اسلام آباد میں، اپنے زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ قونصلر رسائی سے متعلق 2008 کے معاہدے کی دفعات کے تحت ہر سال 01 جنوری اور 01 جولائی کو ایسی فہرستوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔

بھارت نے اپنے تحویل میں 309 پاکستانی شہری قیدیوں اور 95 ماہی گیروں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی ہے۔ اسی طرح، پاکستان نے اپنی تحویل میں ان 49 شہری قیدیوں اور 633 ماہی گیروں کی فہرستیں شیئر کی ہیں، جو ہندوستانی ہیں یا جنہیں ہندوستانی مانا جا رہا ہے۔

حکومت نے شہری قیدیوں، لاپتہ ہندوستانی دفاعی اہلکاروں اور ماہی گیروں کو، ان کی کشتیوں سمیت، پاکستان کی تحویل سے جلد رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس تناظر میں، پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 536 ہندوستانی ماہی گیروں اور 3 ہندوستانی شہری قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی میں تیزی لائے جن کی قومیت کی تصدیق کی جا چکی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ مزید برآں، پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ باقی 105 ماہی گیروں اور 20 شہری قیدیوں تک قونصل رسائی فراہم کرے جو کہ پاکستان کی تحویل میں ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔

ہندوستان ترجیحی طور پر، ایک دوسرے کے ملک میں قیدیوں اور ماہی گیروں سے متعلق امور سمیت، انسانیت کے تمام معاملات کے حل کے لئے پرعزم ہے۔ اس تناظر میں، بھارت نے پاکستان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ ماہی گیروں سمیت 57 پاکستانی قیدیوں کی قومیت کی حیثیت کی تصدیق کے لئے ضروری کارروائی میں تیزی لائے، جن کی وطن واپسی پاکستان کے ذریعہ قومیت کی تصدیق کے لئے زیر التوا ہے۔ کووڈ - 29 وبائی مرض کے پیش نظر، پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تمام ہندوستانی اور ہندوستانی مانے جانے والے شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی سلامتی، سیکورٹی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنائے۔

نئی دہلی

01 جولائی، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.